



SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

Press Release
February 8, 2016
For immediate release

SECP holds seminar on financial literacy

ISLAMABAD: Under its Jamapunji campaign the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) organized an investor education and awareness seminar for the students of Business Management at the Institute of Management Sciences, Peshawar.

The event was organized in collaboration with the Career Development Centre of IMS and a large number of students enthusiastically attended the event. The program started with a brief introduction of the IMS and its achievements.

The students were briefed on the SECP and its role as an apex regulator of the nonbanking financial sector, followed by a discussion on the significance of savings and personal financial planning for the students. The students were briefed on the significance and impact of savings from an early stage and its benefits in the long run through small but regular investments. The discussion focused on capital markets and mutual funds and their functions as potential investment avenues.

Dr. Muhammad Mohsin Khan, director, IMS, thanked the SECP for taking such an important initiative. We are imparting theoretical knowledge about finance and other areas, he said. However, it is extremely important that students need to have market-based knowledge. Today's students are going to be the future investors of capital markets and other investment avenues, and for them it is crucial to have a practical understanding of savings and investments. The bifurcation of legal and illegal investment avenues is critical for securing them from potential frauds. He also highlighted the need to have more activities of this nature so that the upcoming students can also benefit from the market-based knowledge.

ایس ای سی پی کے زیر اہتمام انسٹی ٹیوٹ آف منجمنٹ سائنسز میں آگاہی سیمینار

اسلام آباد: (فروری ۸) : سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے محفوظ سرمایہ کاری اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے اور طالب علموں میں بچتوں کی اہمیت اجاگر کرنے کے لئے انسٹی ٹیوٹ (پشاور میں طالب علموں کے لئے سیمینار منعقد کیا جس میں بڑی تعداد میں IMS آف منجمنٹ سائنسز) طالب علموں نے شرکت کی۔

سیمیٹار کے آغا انسٹی ٹیوٹ آف منجمنٹ سائنسز کے مختصر تعارف اور کامیابیوں سے ہوا۔ اس کے بعد طالب علموں کو سکیورٹیز ایکس چینج کمیشن کے کردار اور فرائض سے آگاہ کیا گیا اور شرکاء کو میوچل فنڈز، پنشن سکیموں، مضاربہ اور سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے مواقعوں سے آگاہ کیا گیا۔ ایس ای سی پی کے حکام فنانشل سیکٹر میں سرمایہ کاری کے لئے دستیاب سکیموں میں سرمایہ کاری کرنے کے قانونی طریقہ کار، فوائد اور سرمایہ کاروں کو حاصل تحفظ سے بھی آگاہ کیا۔

ایس ای سی پی کے انوسٹر ایجوکیشن پروگرام کے تحت شروع کیا جانے والا ویب پورٹل 'جمع پونجی' سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھنے والے عوام کو مختلف مالیاتی شعبوں میں سرمایہ کاری کے دستیاب مواقعوں اور ان سے متعلق فوائد و ضوابط اور ضروری احتیاطی تدابیر سے متعلق آگہی فراہم کرتا ہے۔ اس ویب پورٹل کو عوام اور خاص طور پر سرمایہ کاروں کی جانب سے کافی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔

طالب علموں کو انوسٹر ایجوکیشن کیلئے خصوصی طور پر بنائے گئے ویب پورٹل 'جمع پونجی' کے پر دستیاب فنانشل سیکٹر اور سرمایہ کاری سے متعلق معلومات بارے بھی آگاہ کیا گیا۔ اس پورٹل پر مختلف اقسام کی سرمایہ کاری کے لئے ضروری احتیاطی تدابیر بھی دی گئی ہیں جبکہ اس کے ذریعے کمپنیوں کے ایس ای سی پی کے ساتھ رجسٹر ہونے کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سرمایہ کاری سے متعلق سوالات کے جوابات، جعلی سکیموں کو جاننے کی جانچ پڑتال کے طریقہ کار اور دیگر سرگرمیاں اس پورٹل کا حصہ ہیں۔

سیمیٹار کے اختتام پر انسٹی ٹیوٹ آف منجمنٹ سائنسز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محسن خان نے ایس ای سی پی کے اس اقدام کو سراہا اور مزید کہا کہ اس طرح کے سیمیٹار طالب علموں میں مالیاتی شعور کو اجاگر کر رہی ہے۔